

Arabic (اللغة العربية)

## الطقوس التمهيدية

علامة الصليب

باسم الآب والابن والروح  
القدس.

أمين

تحية

نعمة ربنا يسوع المسيح ، وحب  
الله ، وتواصل الروح القدس كن  
معكم جميعا.

ومع روحك.

قانون التوبة

أيها الإخوة (الإخوة والأخوات) ،  
دعونا نعترف بخطايانا ، وهكذا  
أعد أنفسنا للاحتفال بالألغاز  
المقدسة.

أعترف باله سبحانه وتعالى  
ولكم إخواني وأخواتي ، أنني  
أخطأت كثيرا ، في أفكاري  
وبكلماتي ، في ما قمت به وفي  
ما فشلت في فعله ، من خلال  
خطأي ، من خلال خطأي ، من  
خلال خطأي الأكثر صرامة. لذلك  
أسأل ماري المباركة من أي  
وقت مضى ، جميع الملائكة  
والقديسين ، وأنت ، إخواني  
وأخواتي ، أن أصلي من أجلي  
إلى الرب إلهنا.

قد يرحمنا الله سبحانه وتعالى ،  
سامحنا خطايانا ، وجلينا إلى  
الحياة الأبدية.

أمين

كيري

الرب لديه رحمة.

الرب لديه رحمة.

Icelandic (Íslenska)

## Inngangshátíðir

Merki krossins

Í nafni föðurins og sonarins og heilags  
anda.

AMEN

Kveðja

Náð Drottins vors Jesú Krists, Og kærleikur  
Guðs, og samfélag heilags anda Vertu með  
ykkur öllum.

Og með anda þínum.

Refsiverð athöfn

Bræður (bræður og systur), við skulum  
viðurkenna syndir okkar, Og búðu okkur  
svo undir okkur að fagna helgum  
leyndardómum.

Ég játa fyrir almáttugum Guði Og þér,  
bræður mínir og systur, að ég hafi syndgað  
mjög, í hugsunum mínum og orðum  
mínum, í því sem ég hef gert og í því sem  
ég hef ekki gert, í gegnum mér að kenna, í  
gegnum mér að kenna, Með mér  
gríðarlegustu sök; Þess vegna spyr ég  
blessaða Maríu sífellt dvalar, allir englar og  
dýrlingar, Og þú, bræður mínir og systur,  
að biðja fyrir mér Drottni Guð okkar.

Megi almáttugur Guð miskunna okkur,  
Fyrirgefðu syndir okkar, og færa okkur í  
eilíft líf.

AMEN

Kyrie

Drottinn, miskunna.

Drottinn, miskunna.

Arabic (اللغة العربية)

المسيح ، يرحم .

المسيح ، يرحم .

الرب لديه رحمة .

الرب لديه رحمة .

غلوريا

المجد لله في الأعالي، وعلى  
الأرض سلام للناس من حسن  
النية. نحن نحمدك ، باركنا ،  
نعشقتك ، نمتجدك ، نحن  
نشكرك على مجدك العظيم ،  
الرب الله ، الملك السماوي ، يا  
الله ، الأب سبحانه وتعالى.  
الرب يسوع المسيح ، ابنه  
الوحيد ، الرب الله ، حمل الله ،  
ابن الآب ، أنت تأخذ خطايا  
العالم ، ارحمنا! أنت تأخذ خطايا  
العالم ، تلقي صلواتنا أنت جالس  
على اليد اليمنى من الآب ،  
ارحمنا. لك وحدك القدوس ،  
أنت وحدك الرب ، أنت وحدك  
هي الأعلى ، المسيح عيسى، مع  
الروح القدس ، في مجد الله  
الآب. آمين.

يجمع

دعونا نصلي.

آمين.

القداس من الكلمة

القراءة الأولى

كلمة الرب.

الحمد لله.

المزمور

القراءة الثانية

كلمة الرب.

الحمد لله.

الإنجيل

Icelandic (Íslenska)

Kristur, miskunna.

Kristur, miskunna.

Drottinn, miskunna.

Drottinn, miskunna.

Gloria

Dýrð Guðs í hæsta, og á jörðu friði til fólks  
með góðan vilja. Við lofum þér, Við blessum  
þig, Við dáum þig, Við vegsama þig, Við  
þökkum þér fyrir mikla dýrð, Drottinn Guð,  
himneskur konungur, Ó Guð, almáttugur  
faðir. Drottinn Jesús Kristur, aðeins fæddur  
sonur, Drottinn Guð, lamb Guðs, sonur  
föðurins, Þú tekur frá sér syndir heimsins,  
miskunna okkur; Þú tekur frá sér syndir  
heimsins, fá bæn okkar; Þú situr við hægri  
hönd föðurins, miskunna okkur. Fyrir þig  
einn eru heilagir, þú einn ert Drottinn, þú  
einn ert sá hæsti, Jesús Kristur, með  
heilögum anda, Í dýrð Guðs faðirinn. AMEN.

Safnaðu

Við skulum biðja.

AMEN.

Helgisiðir af orðinu

Fyrsta lestur

Orð Drottins.

Takk fyrir Guð.

Svara sálmur

Önnur lestur

Orð Drottins.

Takk fyrir Guð.

Fagnaðarerindi

Arabic (اللغة العربية)

الرب يكون معك.

ومع روحك.

قراءة من الإنجيل المقدس وفقا

.N ل

المجد لك يا رب

إنجيل الرب.

الحمد لك يا رب يسوع المسيح.

مهنة الايمان

أنا أوْمَنُ بإِلهِ واحدٍ ، الأبِ  
سبحانه وتعالى ، صانع السماء  
والأرض ، من كل الأشياء مرئية  
وغير مرئية. أنا أوْمَنُ برب واحد  
يسوع المسيح ، ابن الله الوحيد  
، ولد من الأب قبل جميع  
الأعمار. الله من الله ، الضوء  
من الضوء ، الله الحقيقي من  
الله الحقيقي ، begotten ، غير  
مصنوعة ، consubstantial مع  
الأب ؛ به خلق كل شيء.  
بالنسبة لنا الرجال ولخلاصنا ،  
نزل من السماء ، والروح  
القدس كان يتجسد مع مريم  
العذراء ، وأصبح رجل. من أجلنا  
تم صلبه تحت بونتوريوس بيلاطس  
، عانى من الموت ودفن ،  
وروس مرة أخرى في اليوم  
الثالث وفقا للكتاب المقدس.  
صعد إلى الجنة وجلس في اليد  
اليمنى من الآب. سوف يأتي  
مرة أخرى في المجد للحكم  
على الأحياء والموتى ولن تنتهي  
مملكته. أنا أوْمَنُ بالروح القدس  
، الرب ، مانح الحياة ، الذي  
ينطلق من الآب والابن ، من مع  
الأب والابن معشوق ومجد ، الذي  
تحدث من خلال الأنبياء. أنا أوْمَنُ  
بالكنيسة المقدسة والكاثوليكية  
والرسولية. أعترف معمودية

Icelandic (Íslenska)

Drottinn er með þér.

Og með anda þínum.

Lestur frá heilaga fagnaðarerindinu  
samkvæmt N.

Dýrð þér, Drottinn

Fagnaðarerindi Drottins.

Lof til þín, Drottinn Jesús Kristur.

Starf trúar

Ég trúi á einn Guð, faðirinn almáttugur,  
framleiðandi himins og jarðar, af öllu  
sýnilegum og ósýnilegum. Ég trúi á einn  
Drottinn Jesú Krist, Eini fæddur sonur Guðs,  
fæddur af föður fyrir alla aldurshópa. Guð  
frá Guði, Ljós frá ljósi, sannur Guð frá  
sönnum Guði, fæddur, ekki gerður,  
samviskusamur með föður; Í gegnum hann  
voru allir gerðir. Fyrir okkur menn og til  
hjálpæðis kom hann niður af himni, og af  
heilögum anda var holdtekin Maríu mey, og  
varð maður. Fyrir okkar sakir var hann  
krossfestur undir Pontius Pilatus, Hann  
hlaut dauða og var grafinn, Og reis upp  
aftur á þriðja degi í samræmi við  
ritningarnar. Hann steig upp til himna og  
situr við hægri hönd föðursins. Hann mun  
koma aftur í dýrð að dæma lifandi og hina  
látnu Og ríki hans mun ekki hafa endi. Ég  
trúi á heilagan anda, Drottinn, líf lífsins,  
sem heldur áfram af föður og syni, Hver  
með föður og son er dáður og vegsamaður,  
sem hefur talað í gegnum spámennina. Ég  
trúi á eina, heilaga, kápólsku og postullegu  
kirkju. Ég játa eina skírni fyrir fyrirgefningu  
synda Og ég hlakka til upprisau dauðra og líf  
heimsins sem koma. AMEN.

Arabic (اللغة العربية)

واحدة من أجل مغفرة الخطايا  
وأنا أتطلع إلى قيامة الموتى  
وحياة العالم القادمة. آمين.  
عظة

صلاة عالمية

نصلي للرب.

يا رب ، اسمع صلاتنا.

القداس القربان  
المقدس

Orferty

مبارك الله إلى الأبد.

صلي ، أيها الإخوة (الإخوة  
والأخوات) ، أن تضحياتي وكمالك  
قد تكون مقبولة لله ، الأب  
سبحانه وتعالى.

أتمنى أن يقبل الرب التضحية  
بين يديك من أجل الثناء ومجد  
اسمه ، من أجل مصلحتنا وصالح  
كل كنيسته المقدسة.

آمين.

الصلاة الإفخارستية

الرب يكون معك.

ومع روحك.

ارفع قلبك.

نرفعهم إلى الرب.

دعونا نشكر الرب إلهنا.

انها صحيحة وعادلة.

المقدسة ، المقدسة ، الرب  
القدوس إله المضيفات. السماء  
والأرض مملوءتان من مجدك.  
أوصنا في الأعالي. طوبى هو  
الذي يأتي باسم الرب. أوصنا  
في الأعالي.

سر الإيمان.

Icelandic (Íslenska)

Heimilislega

Alhliða bæn

Við biðjum til Drottins.

Drottinn, heyrðu bæn okkar.

Helgisiðir evkaristíunnar

OfferTory

Blessaður sé Guð um aldur og ævi.

Biðja, bræður (bræður og systur), að fórn  
mín og þín Getur verið viðunandi fyrir Guð,  
Almáttugur faðirinn.

Megi Drottinn samþykkja fórnina í  
höndunum fyrir lof og dýrð nafns hans, til  
góðs og hag allra heilagrar kirkju hans.

AMEN.

Evkaristíska bæn

Drottinn er með þér.

Og með anda þínum.

Lyftu hjörtum þínum.

Við lyftum þeim upp til Drottins.

Við skulum þakka Drottni Guði okkar.

Það er rétt og bara.

Heilagur, heilagur, heilagur Drottinn guð  
gestgjafa. Himnaríki og jörð eru full af dýrð  
þinni. Hosanna í hæsta. Blessaður er sá  
sem kemur í nafni Drottins. Hosanna í  
hæsta.

Leyndardómur trúarinnar.

## Arabic (اللغة العربية)

نعن موتك يا رب ، وبعن  
قيامتك حتى تأتي مرة أخرى.  
أو: عندما نأكل هذا الخبز  
ونشرب هذا الكأس ، نعلن  
موتك يا رب ، حتى تأتي مرة  
أخرى. أو: أنقذنا ، منقذ العالم ،  
من خلال الصليب والقيامة لقد  
حررنا.  
آمين.

## طقوس الشركة

في أمر المخلص وتشكلها  
التدريس الإلهي ، نجرؤ على  
القول:

أبانا الذي في السموات،  
المقدس أن يكون اسمك ؛  
ملكيتك تأتي ، لتكن مشيئتك  
على الأرض كما هي في  
السماء. أعطنا هذا اليوم خبزنا  
اليومي ، وسامحنا التبعديات ،  
ونحن نسامح أولئك الذين  
يتعدون ضدنا ؛ وتؤدي بنا إلى  
الاعتراف، لكن نجنا من الشرير.  
نلقينا ، يا رب ، نصلي ، من كل  
شر ، منح السلام بلطف في  
أيامنا ، ذلك ، بمساعدة رحمتك  
، قد نكون دائمًا خالين من  
الخطيئة وأمنة من كل الضيق ،  
ونحن ننتظر الأمل المبارك  
ومجيء منقذنا ، يسوع المسيح.  
للمملكة ، القوة والمجد لك الآن  
وإلى الأبد.

الرب يسوع المسيح، من قال  
لرسلك: السلام أتركك ، سلامي  
أعطيك ، لا تنظر إلى خطايانا ،  
لكن على إيمان كنيسة ،  
وتمنحها سلامها ووحدتها بلطف  
وفقا لإرادتك. الذين يعيشون  
ويسودون إلى الأبد وإلى الأبد.

## Icelandic (Íslenska)

Við boðum dauða þinn, Drottinn, og játa  
upprisu þína þangað til þú kemur aftur.  
Eða: Þegar við borðum þetta brauð og  
drekum þennan bolla, Við boðum dauða  
þinn, Drottinn, þangað til þú kemur aftur.  
Eða: Bjarga okkur, frelsari heimsins, Fyrir  
kross þinn og upprisu þú hefur látið okkur  
losa okkur.

AMEN.

## Samfélagshelgi

Að skipun frelsarans og myndast af  
guðlegri kennslu, þorum við að segja:

Faðir okkar, sem list á himni, Helgist þitt  
nafn; Ríki þitt kemur, verður gert þitt á  
jörðu eins og það er á himni. Gefðu okkur  
þennan dag daglega brauð, og fyrirgefum  
okkur trespasses okkar, þegar við  
fyrirgefum þeim sem sveiflast gegn okkur;  
og leiða okkur ekki til freistingar, en frelsa  
okkur frá illu.

Frelsaðu okkur, Drottinn, við biðjum, frá  
hverju illu, Gæfu friðinn á okkar dögum, að  
með hjálp þinni, Við gætum verið alltaf laus  
við synd og öruggt fyrir allri neyð, Eins og  
við bíðum blessaða vonarinnar og komu  
frelsara okkar, Jesús Kristur.

Fyrir ríkið, Krafturinn og dýrðin eru þín Nú  
og að eilífu.

Drottinn Jesús Kristur, Hver sagði við  
postulana þína: Friður ég læt þig, friður  
minn ég gef þér, Horfðu ekki á syndir  
okkar, En á trú kirkjunnar þinnar, og veita  
henni náð frið og einingu í samræmi við  
vilja þinn. Sem lifa og ríkja um aldur og  
ævi.

## Arabic (اللغة العربية)

آمين.

سلام الرب يكون معك دائماً.

ومع روحك.

دعونا نقدم بعضنا البعض علامة

السلام.

حمل الله ، أنت تأخذ خطايا

العالم ، ارحمنا. حمل الله ، أنت

تأخذ خطايا العالم ، ارحمنا.

حمل الله ، أنت تأخذ خطايا

العالم ، منحنا السلام.

هوذا حمل الله ، ها هو الذي

يأخذ خطايا العالم. طوبى تلك

التي تم استدعاؤها لعشاء

الخروف.

يا رب ، أنا لا أستحق يجب أن

تدخل تحت سقفي ، ولكن قل

الكلمة فقط وروحي يجب أن

تلتئم.

جسد المسيح.

آمين.

دعونا نصلي.

آمين.

## الطقوس الختامية

بركة

الرب يكون معك.

ومع روحك.

بارك الله فيك ، بارك الله فيك

، الآب والابن والروح القدس.

آمين.

الفصل

اخرج ، انتهت الكتلة. أو: اذهب

وأعلن إنجيل الرب. أو: اذهب

في سلام ، وتمجيد الرب من

حياتك. أو: اذهب في سلام.

الحمد لله.

## Icelandic (Íslenska)

AMEN.

Friður Drottins vera alltaf með þér.

Og með anda þínum.

Við skulum bjóða hvert öðru merki um frið.

Lamb Guðs, þú tekur burt syndir heimsins,

miskunna okkur. Lamb Guðs, þú tekur burt

syndir heimsins, miskunna okkur. Lamb

Guðs, þú tekur burt syndir heimsins, Veittu

okkur frið.

Sjáðu lamb Guðs, Sjáðu hann sem tekur

burt syndir heimsins. Blessaðir eru þeir

sem kallaðir eru til kvöldmáltíðarinnar á

lambinu.

Drottinn, ég er ekki verðugur að þú ættir að

fara undir þakið mitt, En segðu aðeins orðið

og sál mín skal lækna.

Líkami (blóð) Krists.

AMEN.

Við skulum biðja.

AMEN.

## Lokun helgiathafna

Blessun

Drottinn er með þér.

Og með anda þínum.

Megi almáttugur Guð blessa þig, Faðirinn

og sonurinn og heilagur andi.

AMEN.

Uppsögn

Farðu fram, messunni er lokið. Eða: Farðu

og tilkynntu fagnaðarerindi Drottins. Eða:

Farðu í friði og vegsamaðu Drottin með lífi

þínu. Eða: farðu í friði.

Takk fyrir Guð.

[massineverylanguage.com](https://massineverylanguage.com)

© 2022 Copyright Calgorithms LLC